

8 جون کے اقدامات

تعارف

حکومت نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لئے اقدامات اٹھائے ہیں۔ برائے مہربانی ان اقدامات کا احترام کریں۔ یہ بیمار ہونے اور دوسرے لوگوں کو متاثر کرنے سے بچاتا ہے۔ پولیس ان اقدامات کی تعمیل پر نظر رکھنے کی ذمہ دار ہے۔

بنیادی اقدامات

- اگر آپ بیمار ہیں تو گھر پر رہیں۔
- ہاتھوں کو باقاعدگی سے صابن اور پانی سے دھوئیں۔
- دوسرے لوگوں سے کم سے کم 1.5 میٹر کا فاصلہ رکھیں۔
- ہر ہفتے زیادہ سے زیادہ 10 افراد سے رابطہ ممکن ہے۔ یہ ترجیحاً گھر سے باہر۔
- کیا آپ کسی عوامی جگہ (اسٹیشن ، مارکیٹ ، دکان وغیرہ) میں ہیں جہاں کم سے کم 1.5 میٹر کا فاصلہ رکھنا ناممکن ہے؟ ماسک پہننے کی سفارش کی جاتی ہے۔
- ہمیشہ ماسک پہنیں۔

کسی دوسرے شہر یا بیرون ملک سفر کرنا

- ایک یا زیادہ دن کے لئے سیر و تفریح کے لئے بیلجیم کے کسی گاؤں یا شہر جانا ممکن ہے۔
- کیا آپ پبلک ٹرانسپورٹ (بس ، ٹرام یا ٹرین) استعمال کرتے ہیں؟ آپ کی عمر 12 سال سے زیادہ ہے منہ اور ناک دونوں کو ڈھانپنے والا ماسک یا اسکارف پہنیں۔

آپ نیدرلینڈز ، جرمنی اور لکسمبرگ جا سکتے ہیں؛

- اپنے اہل خانہ سے ملنے۔
- شاپنگ کرنے۔

15 جون سے

- 15 جون سے بیرون ملک چھٹیوں پر جانا ممکن ہے۔
- برطانیہ، سوئٹزرلینڈ، لیچسٹین، انس لینڈ اور ناروے سمیت یورپی یونین کے کسی بھی ملک کا سفر ممکن ہے۔
- بیرون ملک کئے گئے اقدامات کو بغور پڑھیں۔ یہ آپ کو اس ویب پیج پر مل سکتا ہے
-

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

ملازمت

- جتنا ممکن ہو گھر میں کام کریں۔
- کیا آپ کا اپنے کام کی جگہ پر جانا لازمی ہے؟ آپ کا آجر کم از کم 1.5 میٹر کا معاشرتی فاصلہ فراہم کریگا۔ یہ قابل اطلاق نہیں ہے؟ اپنے آجر سے ماسک طلب کریں۔
- کیا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ آپ کا آجر آپ کو آگاہ کرے گا۔

دکانیں

- تمام دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔
- رات کی دکانیں صبح 1 بجے تک کھلی رہتی ہیں۔
- بیرونی منڈیوں کی اجازت ہے۔
- آپ پینر ڈریسر یا بیوٹی سیلون میں جاسکتے ہیں۔
 - ملاقات کا وقت لیجیے
 - ماسک پہنیں

کھانے پینے کی دوکانیں

- کیفے اور ریستوران صبح 1 بجے تک کھلے رہتے ہیں۔
 - پیشگی بک کروانے کی سفارش کی جاتی ہے۔
 - ہر گروپ میں زیادہ سے زیادہ 10 افراد۔
 - اپنی میز پر بیٹھے رہیں۔

سماجی روابط

- ممکن ہے کہ ہر ہفتے 10 مختلف لوگوں سے قریبی رابطہ ہو۔
 - گھر سے باہر ملنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
 - گھر باہر سے نہیں مل سکتے؟ کھڑکیاں زیادہ سے زیادہ کھلی رکھیں۔
- کیا آپ گروپ میں کوئی سرگرمی کرنا چاہتے ہیں (مثال کے طور پر کسی ریستوران میں جانا یا گھومنا پہرنا ،
- یا اپنے گھر پر مدعو کرنا)؟ یہ ملاقاتیں زیادہ سے زیادہ 10 افراد تک محدود ہیں۔

ورزش کرنا

- دوسرے لوگوں کے ساتھ کھیلوں کی سرگرمیوں کی اجازت ہے۔
- 20 افراد تک کے گروپ میں کھیل کھیلنا ممکن ہے۔
 - کھیلوں کے دوران بھی کم سے کم 1.5 میٹر کا فاصلہ رکھیں۔
 - تماشبینوں کی اجازت نہیں ہے۔
- فٹنس سنٹر یا اسپورٹس کلب میں کھیلوں کی سرگرمیاں کرنا ممکن ہے۔
 - پوشاک اور شاور بند رہیں۔
 - تالاب ، اسپاس اور تندرستی کے مراکز بھی بند ہیں۔

یکم جولائی سے

- یکم جولائی سے ، زیادہ سے زیادہ 50 افراد کے ساتھ کھیل کھیلنا ممکن ہے۔
 - عوام کی اجازت ہے۔
- عوام زیادہ سے زیادہ 200 افراد تک محدود ہے۔ بیٹھ کر دیکھنا لازمی ہے۔
 - کم سے کم 1.5 میٹر کا فاصلہ رکھیں۔

ثقافت

لائبریریاں کھلی ہوئی ہیں۔

یکم جولائی سے

- آپ تھیٹر ، سنیما یا کنسرٹ میں جا سکتے ہیں۔
 - زیادہ سے زیادہ 200 افراد ، سب بیٹھے ہوئے۔
 - کم از کم 1.5 میٹر کا فاصلہ رکھیں۔
- فون کے ذریعہ یا آن لائن پہلے سے ٹکٹ خریدنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
 - تفریحی پارک یا انڈور کھیل کے میدان میں جانا ممکن ہے۔
 - بچوں کے کیمپوں کی اجازت ہے۔

یکم اگست سے

- ہیپتسمہ منانے اور میلوں کی اجازت ہے۔

کس چیز کی اب بھی اجازت نہیں ہے؟

- ڈسکوز یا نائٹ کلبیں ابھی دوبارہ نہیں کھول سکتی ہیں۔
- بڑے واقعات (مثال کے طور پر تہواروں) کی اجازت نہیں ہے۔

مذہب

- • مذہبی عبادات کو دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔
- زیادہ سے زیادہ 100 افراد شرکت کر سکتے ہیں۔ یکم جولائی سے لوگوں کی یہ تعداد 200 تک بڑھا دی جائے گی۔
- کوئی جسمانی رابطہ ممنوع ہے۔

نرسری اور اسکول

- نرسری کھلی ہوئی ہیں۔
- پرائمری اور سیکنڈری تعلیم اور نرسری اسکول میں طلباء اسکول دوبارہ جا سکتے ہیں۔
- آپ کا اسکول آپ کو مزید معلومات فراہم کرے گا۔

حوصلہ افزائی

یہ اقدامات عوامی صحت کے لئے اہم ہیں۔ ہر ایک سے ان کی احترام کی توقع کی جاتی ہے۔ آپ کے تعاون کے لئے شکریہ۔ ہم سب مل کر کورونا وائرس کے خلاف لڑ رہے ہیں۔